



سوال

(362) بولی والی کمیٹی کی آمدنی حرام ہے

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کوئی شخص خطبہ الامت کے فرائض سرانجام دیتا ہے اور تجارت بھی کرتا ہے۔ اس بازار میں دکانداروں نے کمیٹی ڈالی ہے۔ جس کو بولی والی کمیٹی کہتے ہیں یعنی ہر مہینہ اس کی رقم کی بولی ہوتی ہے اور اس منافع کو ممبران کمیٹی پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس خزانچی کے پاس امام صاحب مذکور بھی کمیٹی جمع کرواتے ہیں لیکن وہ اس منافع کو غلط اور ناجائز سمجھتے ہیں اور منافع نہیں لیتے۔ جتنی رقم جمع کرواتے ہیں پوری پوری رقم خزانچی سے وصول کرتے ہیں اس شکل میں اس امام کے پیچھے جمعہ نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔

(سائل: رانا مشتاق احمد چھانگا مانگا ضلع قصور)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

بشرط صحت سوال و بشرط صحت واقعہ بولی والی کمیٹی کی مذکورہ صورت تو واضح طور پر سود کے حکم میں ہے جو سراسر حرام اور ناجائز اور باطل کی ایک صورت ہے۔ جس سے اجتناب اور گریز لازم ہے۔ البتہ دوسری صورت یعنی جب کہ اس خزانچی کے پاس اپنی رقم بطور امانت برائے بچت جمع کروائی جائے اور بولی کی صورت میں حاصل ہونے والی رقم سے حصہ نہ وصول کیا جائے بلکہ اس کو حرام سمجھا جائے اور صرف اپنی باری آنے پر اپنی ہے جمع شدہ رقم وصول کی جائے تو یہ صورت جائز ہے۔ جیسا کہ سراسر سودی بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں حفاظت کی نیت سے پسند جمع کروانا جائز ہے تو ایسے یہ دوسری صورت بھی جائز معلوم ہوتی ہے۔ اور ایسے امام کی اقتدا میں جمعہ نماز پڑھنا بلاشبہ جائز اور درست ہے کیونکہ اس نے تو اپنی جائز بچت کی غرض سے اس کمیٹی میں شرکت کی ہے۔ نیز بولی کی صورت میں حاصل ہونے والی رقم کو منافع کہنا بھی صحیح نہیں بلکہ وہ سراسر سود کی صورت ہے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ محمدیہ

ج 1 ص 862



محدث فتویٰ